

بڑی تبدیلی لائے!

انسانی زندگی تبدیلی اور تغیر کے مسلسل عمل سے گزر رہی ہے۔ کچھ تبدیلیاں ارادے کے نتیجے میں آتی ہیں، جب کہ کچھ حالات کی وجہ سے ہوتی ہیں۔ کچھ پسندیدہ ہوتی ہیں اور خوش گوار بھی، جب کہ کچھ تختی اور سختیوں کے ساتھ رُونما ہوتی ہیں۔ بعض تو بارہا سوچنے اور ارادہ کرنے کے باوجود نہیں آتی ہیں۔

بعض بڑے کاموں کے کوئی اثرات نہیں ہوتے، سواے وقت اور وسائل کے ضایع کے..... اور چھوٹے کام توجہ ہی نہیں حاصل کرپاتے۔ اکثر بڑے کاروبار، بڑی جماعتوں آغاز میں کسی ایک فرد کے عمل سے شروع ہوتی ہیں۔

سوال یہ ہے کہ بڑی تبدیلی کیسے لانی جاسکتی ہے؟

● سوچ بلند اور مقاصد عظیم رکھیں۔

● ارادے کی قوت پر قدر غن نہ لگائیں۔

● اپنا جائزہ، اپنے اندر رہ کر اور باہر سے دیکھ کر لیں۔

● جب سوچیں تو تازہ اور از سر نو انداز میں سوچیں۔

● چھوٹے کام کو حقیر نہ سمجھیں، بڑے کو ناممکن نہ سمجھیں۔

● اندر ہند کوشش کرنے کے بجائے، منفعت بخش محنت کریں۔

● نئی شکل اور نئی حیثیت کا ادراک مستقبل کی روشنی میں کریں۔

● جو کر سکتے ہوں، اس کو، جونہ کر سکتے ہوں، کی وجہ سے ملتی نہ کریں۔

● اندر وہی تبدیلی کو ظاہر کی تبدیلی پر ترجیح دیں۔

● بڑی تبدیلیاں چھوٹی تبدیلیوں کے نتیجے میں آتی ہیں، لہذا چھوٹی تبدیلیوں کے لیے زیادہ محنت کریں۔